

¡Hola! Kaixo / Marhaban مرحبا

¡Buenos días! Egun on! / Sabah al khayr صباح الخير

¡Buenas tardes! Arratsalde on! / Masa al khayr مساء الخير

¡Buenas noches! Gabon! / Layla saida ليلة سعيدة

¡Qué duermas bien! Ongi lo egin! / Atamanna an tanama jayidan أتمنى أن تنام جيدا

¡Adiós! Agur! / Wadaan وداعا

¡Hasta luego! Gero arte! / Ila allliqa الى اللقاء

Por favor... Mesedez/ Min fadlik من فضلك

¡Gracias! Eskerrik asko! / Shokran شكرا

Sí / No Bai/ Ez/ Naam نعم / La لا

Qué tal ? Zer moduz? / kayfa halok? كيف حالك؟

¡Bien! Ongi! / Djayid! جيد!

¡Muy bien! Oso ongi / Djayid Djiddan! جيد جدا!

¡Mal! Gaizki! Ghayr sahih!/ Sayi'e / غير صحيح, سيء!

¡No muy bien! Erdipurdi! / Laysa ala ma yuram ليس على ما يرام

Yo soy Ane. Ni Ane naiz. / Ana ismi Ane انا اسمي أني

Cómo te llamas? Zein da zure izena? / Ma hua ismok? ما هو اسمك؟

Me llamo Xabier. Nire izena Xabier da./ Ismi Xabier انا اسمي شابيير

Cuántos años tienes? Zenbat urte dituzu? / Kam omruk? كم عمرك؟

Yo tengo 34 años. Eta zuk? Nik 34 urte ditut. Eta zuk? / Ladaya 34 aman, wa ant? لدي 34 عاما. وأنت؟

De dónde eres? Nongoa zara? / Min ayna ant? من اين انت؟

Yo soy de Burlada. Ni Burlatakoa naiz. / Ana min Burlada أنا من بورلادا

Mamadou es de Senegal. Mamadou Senegalekoa da. /Mamadu mina sinighal
مامادو من السنغال

Dónde vives? Non bizi zara? / Ayna ta'ish? أين تعيش؟

Yo vivo en Burlada. Ni Burlatan bizi naiz. /Ana a'ish fi Burlada/ انا اعيش في
بورلادا

Mi hermano vive en Pamplona. Nire anaia Iruñean bizi da. / Akhi ya'ish fi أخي
يعيش في بمبلونا

Sabes hablar en español? Badakizu gaztelaniaz? / Hal tatakallam bi allugha al
isbaniya? هل تتكلم باللغة الاسبانية؟

Sabes hablar en euskara? Badakizu euskaraz? / Hal tatakallam lughat al bask?
هل تتكلم لغة الباسك؟

Sí, un poco! Bai, pixka bat! / Naam, qalilan نعم، قليلا

Poco, estoy aprendiendo. Gutxi, ikasten ari naiz. / Qalilan, la zilto ataalam قليلا،
لا زلت اتعلم

Dónde está la biblioteca? Non dago liburutegia?/ Ayna hiya al maktaba? أين
هي المكتبة

Al lado del Ayuntamiento. Udaletxearen ondoan. / Bijiwar al baladiya بجوار
البلدية

Dónde está el baño? Non dago komuna? / Ayna al hammam? أين الحمام؟

Todo recto. Dena zuzen./ Mubashara مباشرة

A la derecha. Eskubian./ Ila al yamin/ إلى اليمين

A la izquierda. Ezkerrean./ 'Ila al yasar إلى اليسار

Arriba. Goian. / Fawq فوق

Abajo. Behean./ Taht تحت

Atrás. Atzean./ Ila al wara'e إلى الورا

Delante. Aurrean./ Ila al amam إلى الأمام

Bar. Taberna. Bar ./ Hana حانة

Carnicería. Harategia. / Majzara مجزرة

Pescadería. Arrandegia. / Suq al samak سوق السمك

Librería. Liburu denda./ Maktaba مكتبة

Juzgado. Epaitegia. / Mahkama محكمة

Centro de salud. Osasun-etxea. / Markaz sihi مركز صحي

Casa de cultura. Kultur etxea. Keru thiossan bi. / Dar al thaqafa دار الثقافة

Cine. Zinema. Cinema. / Al sinema السينما

Centro juvenil. Gaztetxea. Keru wakhambane yi./ Markaz al shabab مركز الشباب

Ludoteca. Ludoteka. / Maktabat al alaab مكتبة الالعب

Lugar de baile. Dantzalekua. Fethiou kay bi. / Makan al raqs مكان الرقص

Iglesia. Eliza. / Kanisa كنيسة

Mezquita. Meskita./ Masjid مسجد

Hoy. Gaur. / Al yawm اليوم

Ayer. Atzo. / Ams أمس

Mañana. Bihar. / Ghadan غدا

Ahora. Orain. / Al an الآن

Antes. Lehen./ Qabl قبل

Después. Gero. / Baad بعد

Bonito/a. Polita. / Djamil جميل

Feo/a. Itsusia. / Kabih قبيح

Sabroso/a. Gozoa./ Ladid لذيد

Pronto. Goiz. / Qariban قريبا

Tarde. Berandu./ Mutaakhir متأخر

Fácil. Erraza. / Sahl سهل
Difícil. Zaila. / Sa'ab صعب
Grande. Handia. / Kabir كبير
Pequeño/a. Txikia./ Saghir صغير
Viejo/a. Zaharra. / Kadim قديم
Joven. Gaztea. / Shabb شاب
Mucho. Asko./ Kathiran كثيرا
Poco. Gutxi. Bundaw. / Kalil. قليل
Un poco. Pixka bat./ Baad al shay'e بعض الشيء
Abierto/a. Zabalik/Irekita./ Maftuh مفتوح
Cerrado/a. Itxita. / Mughlaq مغلق
Espacio. Poliki. / Bi bot'e ببطء
Rápido. Azkar. / Bi soraa بسرعة

COLORES – KOLOREAK – AL ALWAN الألوان

Negro/a. Beltza. / Aswad أسود
Blanco/a. Zuria. / Abyad أبيض
Amarillo/a. Horia. / Asfar أصفر
Rojo/a. Gorria. / Ahmar أحمر
Naranja. Laranja./ Burtuqali برتقالي
Azul. Urdina. / Azraq أزرق
Verde. Berdea. / Akhdar أخضر
Marrón. Marroia. / Bunni. بني
Morado/a. Morea. / Banafsaji بنفسجي

Rosa. Arroza. / وردى

DÍAS DE LA SEMANA - ASTEKO EGUNAK - AYAM AL USBU'E أيام الاسبوع

Lunes. Astelehena. / Al ithnayn الإثنين

Martes. Asteartea. / Al thulatha'e الثلاثاء

Miércoles. Asteazkena./ Al arbia'e الأربعاء

Jueves. Osteguna./ Al khamis الخميس

Viernes. Ostirala./ Al djumua الجمعة

Sábado. Larunbata./ Al sabt السبت

Domingo. Igandea. / Al ahad الأحد

MESES – HILABETEAK – AL ASH`HUR الأشهر

Enero. Urtarrila. / Yanayir يناير

Febrero. Otsaila./ Fibrayir فبراير

Marzo. Martxoa./ Maris مارس

Abril. Apirila. / Abril أبريل

Mayo. Maiatza. / Mayu مايو

Junio. Ekaina. / Yuniu يونيو

Julio. Uztaila. / Yuliu يوليو

Agosto. Abuztua. / Aghustus أغسطس

Septiembre. Iraila. / Sibtambar سبتمبر

Octubre. Urria. / Uktubar أكتوبر

Noviembre. Azaroa. / Nuwambir نونبر

Diciembre. Abendua. / Disambar ديسمبر

ESTACIONES - URTAROAK – AL FUSUL AL ARBAA الفصول الاربعة

Invierno. Negua./ Al Shita الشتاء

Primavera. Udaberria. / Al Rabi'e الربيع

Verano. Uda. / Al sayf الصيف

Otoño. Udazkena. / Al kharif الخريف

NÚMEROS – ZENBAKIAK- AL ARKAM الأرقام

Uno/a. Bat./ Wahid واحد

Dos. Bi./ Ithnan اثنان

Tres. Hiru. / Thalatha ثلاثة

Cuatro. Lau. / Arba'a أربعة

Cinco. Bost. / Khamsa خمسة

Seis. Sei. / Sitta ستة

Siete. Zazpi. / Sabe'a سبعة

Ocho. Zortzi. / Thamaniya ثمانية

Nueve. Bederatzi. / Tise'a تسعة

Diez. Hamar./ Ashra عشرة

Once. Hamaika./ Ihda ashar أحد عشر

Doce. Hamabi. / Ithna ashar اثنا عشر

Trece. Hamahiru. / Thalathata ashar ثلاثة عشر

Catorce. Hamalau. / Arbaata ashar اربعة عشر

Quince. Hamabost. / Khamsata ashar خمسة عشر

Dieciséis. Hamasei. / Sittata ashar ستة عشر

Diecisiete. Hamazazpi. / Sabe´ata ashar سبعة عشر

Dieciocho. Hamazortzi. / Thamaniyata ashar ثمانية عشر

Diecinueve. Hemeretzi./ Tise´ata ashar تسعة عشر

Veinte. Hogeí. / Ishrun عشرون

Veintiuno/a. Hogeita bat./ Wahid wa ishrun. واحد و عشرون

Veintidós. Hogeita bi. / Ithnan wa ishrun إثنان و عشرون

Veintitrés. Hogeita hiru./ Tthalathaton wa ishrun ثلاثة و عشرون

Treinta. Hogeita hamar. / Thalathun ثلاثون

Treinta y uno/a. Hogeita hamaika. / Wahid wa thalathun واحد و ثلاثون

Treinta y dos. Hogeita hamabi. / Ithnan wa thalathun اثنان و ثلاثون

Treinta y cuatro. Hogeita hamalau. / Arbet wathalathin أربعة و ثلاثون

Cuarenta. Berrogei. / Arba´un أربعون

Cincuenta. Berrogeita hamar./ Khamsun خمسون

Sesenta. Hirurogei. / Suttun ستون

Setenta. Hirurogeita hamar. / Sab´un سبعون

Ochenta. Laurogei./ Thamanun ثمانون

Noventa. Laurogeita hamar. / Tes´un تسعون

Cien. Ehun./ Miya مائة

Ciento uno. Ehun eta bat. / Miya wa wahid مائة و واحد

Ciento once. Ehun eta hamaika. / Miya wa ihda ashar. مائة و إحدى عشر

Ciento cincuenta dos. Ehun eta berrogeita hamabi. / Miaya wa wahid wa khamsun مائة و واحد و خمسون

SER – IZAN –KANA كان

Yo soy. Ni naiz./ Ana أنا

Tú eres. Zu zara. / Anta انت

Él / Ella es. Hura da. / Huwa, Hiya. هو, هي

Nosotros/as somos. / Gu gara. / Nahno نحن

Vosotros/as sois. Zuek zarete. / Antum أنتم , Antunna انتن

Ellos/as son. Haiek dira. / Hum ,Hunna. هم, هن

TENER - UKAN / EDUKI - Imtalaka امتلك

Yo tengo. Nik dut / daukat. / Ana ladaya أنا لدي

Tú tienes. Zuk duzu/ daukazu. / Ladayk لديك

Él / Ella tiene. Hark du/ dauka. / Ladayhi لديه , Ladayha لديها

Nosotros/as tenemos. Guk dugu/daukagu. / Ladayna لدينا

Vosotros/as tenéis. Zuek duzue/ daukazue./ Antum ladaykom أنتم لديكم ,
Anthonna ladaykonna , أنتن لديكم

Ellos/as tienen. Haiek dute/daukate./ Hom ladayhim هم لديهم , Honna ladayhinna
هن لديهن

¿Quién? Nor? / Man? من؟

¿Qué? Zer? / Mada? ماذا؟

¿A quién? Nori?/ Li man? لمن؟

¿De quién? Noren(a)? / Min tarafi man ? من طرف من؟

¿Con quién? Norekin? / Ma´a man ? مع من؟

¿Dónde? Non?/ Ayna?/ أين؟

¿De dónde? Nongo(a)?/ Min ayna? من أين؟

¿De dónde? Nondik? / Min ayna? من أين؟

¿A dónde? Nora ? / Lilaa 'ayn? إلى أين؟

¿Por qué? Zergatik? / Limada ? لماذا؟

¿Cuándo? Noiz? / Matha? متى؟

¿Cuánto? Zenbat? / Kam? كم؟

¿Cómo? Nola? / Kayfa? كيف؟

¿De qué tipo? Nolako(a)? / Min ayi naw'e? من أي نوع؟

Mi / Mío-a. Nire(a). / Li / ملكي / لي